

9 جنوری 2018

نیو اینرز لیوی کے موقع پر میئر اور کونسل کے اراکین کے ساتھ شریک ہو جائیں

برامپٹن، آن - برامپٹن میں نیو اینرز لیوی کی تقریب اپنے روایتی انداز میں بروز ہفتہ مورخہ 20 جنوری کو بوقت دن 1 تا 3 بجے تک سٹی ہال میں منعقد ہو رہی ہے۔ دروازے دن 12:30 پر کھلیں گے۔ میئر جیفری اور کونسل کے اراکین کے ساتھ ملاقاتوں کے دوران مقامی تقریبی پروگراموں اور ریفریشمنٹس کا لطف اٹھائیں۔

راجرز ہوم ٹاؤن ہاکی جو برامپٹن میں 10 اور 11 مارچ کو جلوہ گر ہو رہی ہے، کو فروغ دینے میں ہماری مدد کے لیے مہمان خصوصی نیک انٹروف موقع پر موجود ہوں گے۔

رہائشیوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے اسکیتس ساتھ لائیں اور اگر موسم نے اجازت دی، تو گیج پارک پر اسکیتنگ کی ایک دوپہر سے لطف اندوز ہوں۔

لیوی اور سٹی آف برامپٹن میں ہونے والی دیگر تقریبات کے متعلق معلومات کے لیے www.brampton.ca ملاحظہ کریں یا 311 پر کال کریں۔

اقتباس:

"برامپٹن کے رہائشیوں کے ساتھ ملاقات اور بات چیت کرنا مجھے نہایت اچھا لگتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ میں نیو اینرز لیوی سے بے حد لطف اندوز ہوتی ہوں۔ طویل عرصے چلی آنے والی اس روایت میں میرے ساتھ شریک ہو جائیں، جس میں عوام کو اپنے منتخب کردہ نمائندگان سے ملنے اور نئے سال کی خوشیاں منانے کا ایک نادر موقع میسر آتا ہے۔
- میئر لنڈا جیفری

-30-

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں فالو کریں [ٹویٹر](https://www.brampton.ca) اور [فیس بک](https://www.brampton.ca)۔ مزید جاننے کے لیے www.brampton.ca ملاحظہ فرمائیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

نتالی سٹوگڈیل

میڈیا کوآرڈینیٹر

سٹی آف برامپٹن

natalie.stogdill@brampton.ca | 905.874.3654